

صحیح و شام کے آسان معمولات جن کا ثواب بہت زیادہ تھے

حمدتوالٰہ عمال عمل اختصر - ثواب زیادہ چینگیکار لوایصالِ ثواب

حضرت منقی عبد الرزوف سکھری صاحب دامت برکاتہم

Aif



ادارہ اپیشنس، بسیلز، یوپورٹ الامیان

دہلی ۲۷۳۶۸ نام درج، دہلی ११० ०५०
ارجمند پرکاش مہمنی سعید
مکتبہ اپیشنس، گورنمنٹ ایجنسی
فون: ०११-४२३७५५५५-४२३७५५६५
ایمیل: alazhar@alazhar.org.in

فہرست مرضامیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲	معمولات کی تلافي	۵	رحمتوں والے اعمال
۱۵	عمل مختصر اور ثوابِ یاد	۵	ستر مرتبہ رحمت ہونا
۱۵	تمہید	۶	ستر ہزار فرشتوں کی دعا
۱۹	بیش بہا وظیفہ	۷	بڑے بڑے کاموں میں آسانی
۲۰	چھٹ نعمتیں	۸	دارین کی نعمتیں ملنا
۲۱	چار عظیم فائدے	۸	بے انتہا انعام و اکرام
۲۱	ساری مخلوق کے برابر عمل	۸	دن رات کی نعمتوں کا شکریہ
۲۰	آسی سال کی عبادت کا ثواب	۹	بے شمار اجر و ثواب
۲۱	بیس لاکھ نیکیاں	۱۰	جنت نصیب ہونا
۲۲	حوادث سے بچنے کا عمل	۱۰	جمنم سے نجات
۲۲	چند نیکیاں اور ابیصال ثواب	۱۱	حافظت کا خاص عمل
۲۳	تمہید	۱۲	چاروں قل
۲۳		۱۳	نقصانات سے بچاؤ
۲۴		۱۳	آفات و بلیات سے حفاظت

عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
شیطان سے حفاظت	۲۷	سو حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں	۳۴
چار بیماریوں سے تحریر	۲۸	۱۵ منٹ میں دس قرآن کریم کا ثواب	۳۵
دوزخ سے نجات	۲۹	مختلف سورتوں کے فضائل	۳۶ تا ۴۱
ہزارہ بانیکیاں	۳۰	ایک قرآن کریم کے برابر ثواب	۴۱
شب قدر کے برابر ثواب	۳۰	جنت میں ایک محل	۴۱
بے شمار گناہوں کی معافی	۳۰	چار قرآن کریم کے برابر ثواب	۴۲
ایک لاکھ چوبیس ہزار بانیکیاں	۳۱	پچھاں سال کے گناہ معاف	۴۲
ستتر فرشتے ستودن تک ثواب	۳۱	دوزخ سے نجات کی تحریر	۴۳
لکھ کر ختم نہ کر سکیں	۳۲	دو سو سال کے گناہوں کی معافی !	۴۳
جنت میں درجت	۳۲	ہزاروں ملائکہ کی صف بندی	۴۴
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَفَّنْ بِرْخِشْ	۳۲	آسان ایصال ثواب	۴۴
جمعہ کے دن درود وسلام کا ثواب	۳۳	دس قرآن کریم کا ثواب	۴۵
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا	۳۳	ایصال ثواب کا طریقہ	۴۶
سفراً شی او لہ گواہ بننا	۳۴		۴۶
نور عظیم	۳۴		۴۶
دو سو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں	۳۴		۴۶

رحمتوں والے اعمال

اس رسال میں صبح اور شام کے بہت
آسان معمولات لکھے گئے ہیں جن کا
اجر و ثواب بہت زیادہ نقول ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذیل میں ایسے معمولات لکھے جاتے ہیں جو بہت آسان اور مختصر
ہیں۔ لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔

سُتر مرتبا نظرِ رحمت ہونا

جو شخص ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک
مرتبہ مندرجہ ذیل آیتیں پانچوں نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا، تو

جنت اس کا ٹھکانہ ہو اور حطیرہ القدس میں رہے اور اللہ تعالیٰ
روزانہ اس پر ستر مرتبہ نظرِ حمت سے دیکھیں اور ستر حاجتیں اس کی
پوری کریں اور اس کی مغفرت کریں۔ (ابن السنی)

شَهَدَ إِلَهٌ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ
أُولُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَغْيَانِهِمْ فَلَوْمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ هُوَ الَّهُمَّ مَلِكَ الْمَلَائِكَ تُؤْتِي
الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ه

ستر ہزار فرشتوں کی دعا

بِسْمِ خَنْصِ تَيْنِ مَرْتَبَةٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّحِيمُ طَرِحَ كُلُّ سُورَةٍ حَشْرَكَى درج ذيل آخرى آيةت صبح وشام ایک ایک مرتبہ پڑھے تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ستر بہار فرشتے اس کے لئے دُعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور مرجاٹے تو شہادت کی طرح موت لکھی جائے۔ (ترمذی۔ دارمی۔ ابن السنی)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّصُ الْعَزِيزُ
الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، هُوَ اللَّهُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصْوِرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

بڑے بڑے کاموں میں آسانی

جو شخص ذیل کی آیت صبح وشام سات مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بہت بڑے بڑے کام الدین تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور وہ آسانی سے پوچھے ہو جاتے ہیں، خواہ جھگوٹے سے ہی پڑھ لے۔ (مسلم)

حَسْبَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۔

دارین کی نعمتیں ملنا

ایک مرتبہ ذیل کی آیت پڑھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں کی نعمت سے فوازا۔ (ترمذی)

حَسْبَنَا اللَّهُ وَنَعَمَ الْوَكِيلُ

بے انتہا انعام و اکرام

جو شخص صبح و شام تین مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا انعام دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ (ترمذی)

رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّاً وَبِالْأَسَلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَبِيًّاً ۔

دن رات کی نعمتوں کا شکر یہ

جس نے درج ذیل کلمات صبح کو کہے اس نے اس دن کی نعمتوں کا شکر

ادا کر دیا اور جس نے شام کو کہے اُس نے اس رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ (ابوداؤد)

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔

فے : شام کو جب مذکورہ دُعا پڑھیں تو مَا أَصْبَحَ کی حجّہ مَا امْسَى پڑھیں۔ باقی دُعا اسی طرح رہے گی۔

بے شمار اجر و ثواب

”سُبْحَانَ اللَّهِ“ جو شخص صبح و شام تسو مرتبہ یہ کلمہ کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اُس نے سوچ کئے۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ جو شخص صبح و شام تسو مرتبہ یہ کلمہ کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اُس نے سوچ کھوڑوں پر اللہ کی راہ میں مجاہدین کو سوار کیا۔ یعنی جہاد کے لئے تسوچ کھوڑے دیئے، یا فرمایا اُس نے تسو مرتبہ جہاد کیا۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ جو شخص صبح و شام تسو مرتبہ یہ کلمہ پڑھے تو وہ ایسا ہے جیسے اُس نے حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے سو غلام آزاد کئے۔

”اللَّهُ أَكْبَرُ“ جو شخص تسو مرتبہ یہ کلمہ کہے اس سے اس روز کوئی

شخص افضل نہ ہو گا سو اُس شخص کے جس نے یہ اتنی ہی باریا
اس سے زیادہ کئے ہوں۔ (ترمذی)
(فتنہ) لہذا مذکورہ کلمات کی صبح اور شام ایک ایک تسبیح (سُودان
والی) پڑھ لیا کریں۔

جتنت نصیب ہونا

جو شخص صبح ایک مرتبہ مندرجہ ذیل "سید الاستقفار" پڑھے اور شام سے
پہلے موت آجائے جفتی ہو گا۔ اسی طرح شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے
موت آجائے، مگر یقین کے ساتھ پڑھے۔ (بخاری)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَعْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا صَنَعْتَ أَبُوكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىٰ وَأَبُوكَ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ -

جہنم سے نجات

جو شخص صبح و شام سات مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھے اللہ تعالیٰ

اُس کو جنم سے بری کر دیتے ہیں۔
 اللہُمَّ أَعِزِّنِي مِنَ النَّارِ -

حافظات کا خاص عمل

صحیح و شام ایک ایک تربیہ ذلیل کے کلمات پڑھتے تو جن و انسان سے حفاظت ہوتی ہے۔

أَعُوذُ بِكَلَامَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ غَصَبَهُ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ
 وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَرِيمَتِ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اور ہر فرض نماز کے بعد قُلْ يَا آتُهَا إِنَّكَ فَرُونَ - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ -

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - پڑھے۔ حدیث

شریف میں ہے کہ "سورہ الكافرون" چوتھائی قرآن مجید کے برابر ہے (ترمذی) اور "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" (ثواب میں) تھائی قرآن

کے برابر ہے۔ (بخاری و مسلم) اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہتر دو سورتیں (سورہ فلق و سورہ ناس) نہیتوں

جو پڑھی جاتی ہیں (ابوداؤد) اور ایک روایت میں ہے کہ ان سورتوں کو پڑھا کرو۔ ان جیسی کوئی سورۃ (پیاہ مانگنے کے باارے) تم ہرگز نہیں پڑھو

گے۔ (نسائی) اور وہ چار سورتیں یہ ہیں :-

چاروں قل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفَرُونَ ه لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ه وَلَا أَنْتُمْ
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ه وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ه وَلَا أَنْتُمْ
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ه لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ه اللَّهُ الصَّمَدُ ه لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ه
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ه مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ه وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ه وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ه
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ه مَلِكِ النَّاسِ ه إِلَهِ النَّاسِ ه

مِنْ شَرِّ الْوَسَوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسِّعُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

قصانات سے بچاؤ

تین مرتبہ ذیل کی دعا پڑھئے تو کوئی شے ضرر نہ پہنچائے گی۔ اللہ از
صبح اور شام تین مرتبہ پڑھ لیا کریں۔

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفْتَرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ
لَدِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

آفات و بليات سے حفاظت

جو شخص صبح و شام درج ذیل کلمات دل دل مرتبہ پڑھ لے گا
اللہ تعالیٰ اس کے لئے تشوونیکیاں لکھ دے گا اور تشوونگناہ نامہ اعمال
سے مٹادے گا اور اس سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا
اور اس دن اور اس رات میں آفات و مکروہات سے محفوظ
رہے گا۔ (ابن السنی)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

معمولات کی تلافي

مندرجہ ذیل دعا ایک مرتبہ رات کو پڑھے تو دن کے تمام اذکار و اوراد کی کنجی پوری کر دی جاتی ہے۔ صبح پڑھے تو رات کے اوراد و اذکار کی کنجی پوری کر دی جاتی ہے۔ (صحاح ستة)

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حَمْدٌ لَّهٗ حَمْدٌ
تَمْسُونَ وَحِينَ تُصِبُّ حُوَنَ وَلَهُ الْحَمْدُ
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشْيَا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيَحْكِمُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرِجُونَ ۝

(ف) صبح اور شام اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ معمولات کی کنجی پوری ہو جایا کرے۔ وہی توفیق دینے والے ہیں۔

(ما خود از علیکم سنتی)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰيَ الشَّٰرِيْكَرِيمِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَآصْحَابِهِ
أَجْمَعِيْتِ ۝

عمل مختصر اور ثواب بیادہ

چھ فعمتیں، چار عظیم فائدے، ساری مخلوق کے برابر عمل،
اٹھی سال کی عبادت کا ثواب، بیس لاکھ نیکیاں اور
حادثات سے بچنے کا عمل

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمد الله و نصلى على رسوله الکریم

تمہید

احادیث طیبہ میں چند اعمال ایسے ملے جو بظاہر بہت مختصر اور بلکہ بھلاکے معلوم ہوتے اور ان پر اجر و ثواب بہت زیادہ بیان ہوا جو اس کیم ذات کا محسن فضل و کرم ہے اور اس کی بے انتہا بخشش ہے جو ہم فقیروں کے لئے اس کی رحمت بیکاری ہے۔ بیاں ان اعمال کو جمع کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص وہ ثواب عظیم حاصل کر سکے اور حق تعالیٰ کی ان بے پایاں رحمتوں کو دیکھ کر اس کی نافرمانیوں سے بھی شرمائے، توبہ کرے اور پرہیز کرے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ه

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلَیْ رَسُولِهِ الْکَرِیْع - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ ط

بِلِیش بہا وظیفہ

اسْتَغْفَار - ایک سو مرتبہ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ

دروڈ شریف - ایک سو مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

کلمہ تجید - ایک سو مرتبہ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

آخر میں صرف ایک مرتبہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

یہ تینوں تسبیحات دوزانہ کسی بھی وقت دن میں ایک بار اور رات میں ایک بار پڑھو
لیا کریں۔ انشاء اللہ دینی اور دنیوی خیر و برکت کا باعث ہو گا۔

بچھے نعمتیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ (یا رسول اللہ !) قرآن کریم کی آیت "لَهُ مَقْالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (کہ آسمان اور زمین کی گنجیاں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں) سے کیا مراد ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا (آسمان و زمین کی گنجیوں سے) یہ کلمات مراد ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ。 هُوَ الْأَقَلُ وَالْأَخْرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِسِيرِ الْخَيْرِ يَجْعَلُ وَيُصَيِّطُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اسے عثمان ! جو شخص یہ کلمات صبح و شام دس دس دفعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو چھٹے نعمتوں سے نوازیں گے۔

- ۱ - شیطان اور اُس کے شکر سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔
- ۲ - اس کو اجر و ثواب کا بڑا ذہیر دیا جائے گا۔
- ۳ - حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔
- ۴ - اس کے گناہ معاف کر دیتے جائیں گے۔
- ۵ - وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گا۔

۶۔ بارہ فرشتے اُس کی موت کے وقت حاضر ہوں گے اور اس کو جنت کی بشارت سنائیں گے اور اس کو قبر سے عزت و احترام کے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر وہ قیامت کے ہولناک حالات سے گھبرائے گا تو فرشتے اس کو تسلی دیں گے اور کہیں گے جبڑا اونہیں تم قیامت کی ہولناکیوں سے اُن میں رہنے والوں میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اُس ان ترین حساب لیں گے اور جنت میں لے جانے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ فرشتے اس کو میدانِ حشر سے جنت کی طرف اس طرح عزت و احترام سے پہنچائیں گے جیسے دہن کو لے جایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے جبکہ دوسرے لوگ حساب و کتاب کی شدت میں بیٹلا ہوں گے۔ (روح المعانی ج ۲۴ ص ۲۲)

چار عظیم فائدے

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ تین سو مرتبہ :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

پڑھے (تو یہ کلمات اس کے لئے فرق و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ اور قبر کی وحشت و تہائی میں انسیت کا باعث ہوں گے اور ان کلمات (کی برکت سے پڑھنے والا) غنا (ظاہری اور باطنی) حاصل کرے گا اور (قیامت کے دن) ان کلمات کی برکت سے وہ جنت کے دروازہ پر دستک دے گا۔

تشریح :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

- روزانہ سو بار پڑھنے والے کو چار بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے ہر فائدہ ایسا ہے جس کا شخص محتاج ہے۔ لہذا شخص کو ہر روز اس کی ایک تسبیع پڑھنی چاہئے وہ فوائد یہ ہیں :-
- ۱- فقر و فاقہ اور معاشی تنگی دُور ہونا -
 - ۲- قبر کی وحشت دُور ہو کر راحت و انسیت حاصل ہونا -
 - ۳- غنا و ظاہری و باطنی نصیب ہونا -
 - ۴- جنت کے ہر دروازے پر دستک دینے اور جنت میں داخل ہونے کی سعادت ملتا -

ساری مخلوق کے برابر عمل

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اچانک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا اور آپ کا چہرہ انور (خوشی سے) دمک اٹھا اور آپ نے ان کو اپنے برابر بھالیا۔ پھر حب وہ صاحب (جس کام کے واسطے ائے تھے وہ) اپنا کام کر چکے (تو جانے کے لئے) اٹھے (اور حب کچھ دُول

چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (محدث سے) فرمایا اے ابو بکر! یہ ایسا شخص ہے کہ روزانہ (تمام روز) زمین کے رہنے والوں کے عمل کے برابر اس (ایکلے) کے عمل (اللہ تعالیٰ کے یہاں) پہنچائے جاتے ہیں۔ (حضرت مسلم اکبر رضی اللہ تعالیٰ لئے عنہ فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا (رسول اللہ) یہ (اتاً ثواب اس کو روزانہ) کیوں (ملتا ہے؟ آپ نے) فرمایا یہ جب کبھی بسیع امتحنا ہے تو مجھ پر دل مرتبہ (ایسا) درود شریف پڑھتا ہے (جو اپنے ثواب میں) ساری مخلوق کے درودوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا (رسول اللہ) وہ کیا درود ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (وہ) یہ درود پڑھتا ہے :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِنَّ الشَّيْءَ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ
مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِنَّ الشَّيْءَ كَمَا يَنْبَغِي
لَنَا أَنْ نُصَلِّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِنَّ الشَّيْءَ كَمَا
أَمْرَتَنَا أَنْ نُصَلِّى عَلَيْهِ -

اسٹی شال کی عبادت کا ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لئے عنہ کی حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسٹی مرتبہ

یہ درود شریف پڑھے :

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَى الَّذِي أَنْزَلْتَهُ وَعَلَى أَلِيٍّ
وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا۔**

تو اس کے آئی سال کے گناہ معاف ہوں گے اور آتی سال کی عبادت کا ثواب اس کے لئے تکھا جائے گا (فقاٹل درود) اور دارقطنی کی ایک روایت میں یہ درود (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الَّذِي أَنْزَلْتَهُ) تک ہے اور اس روایت کو حافظ عراقی نے حسن بتایا ہے اور جامع الصغیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر ”حسن“ کی علامت لکھائی ہے۔ (rama خود فقاٹل درود شریف)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَى الَّذِي أَنْزَلْتَهُ

بلیس لا کھنکپیاں

حضرت عبد اللہ بن ابی اوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص :

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدَ الْحَمَدُ لِلَّهِ
وَلَمْ يُوَلِّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ۔** کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ

اس کے لئے بیس لاکھ نیکیاں لکھیں گے۔ (الترغیب والترہیب)
 (ف) مذکورہ کلمہ ایک بار کرنے پر بیس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہر فرض
 نماز کے بعد یا اس سے پہلے یہ کلمہ ایک بار کہہ لیا کریں تو روزانہ بآسانی
 ایک کروڑ نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ آپ بھی حاصل کر لیجئے۔ کل یہ نیکیاں کام
 آئیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حوادث سے بچنے کا عمل

حضرت طلاق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابوالدرداء اصحابی رضی اللہ
 عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا، فرمایا
 نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے یہی خبر دی تو فرمایا نہیں جلا۔ پھر تیسرا
 شخص نے یہی اطلاع دی، تو فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور شخص نے
 آئے کہا کہ اے ابوالدرداء! آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب
 آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بُجھ گئی۔

فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا
 مکان جل جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
 ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے شام تک اس کو
 کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی (میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس
 لئے مجھے لقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔
 وہ کلمات یہ ہیں :-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكِّلُتُ وَأَنْتَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ وَ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ。 أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ
أَخْذُنَا صَيْتَهَا۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ -

ترجمہ: اے اللہ! آپ میرے رب ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معہود نہیں۔ میں نے
آپ پر بھروسہ کیا اور آپ رب ہیں عرشِ عظیم کے جو اللہ آپ نے چاہا وہ ہوا اور
جو نہ چاہاتے ہوا۔ گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ
ہی کی طرف سے ہے جو بلند اور عظیم ہے، میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو اپنے علم
کے ذریعے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے
اور ہر جاندار کے شر سے، تو ہی اس کی پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ بیشک
میرا رب، ہی سید ہمارا ستہ ہے۔" (کنز العمال)

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانِ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ -

چند نیکیاں اور الیصالِ ثواب

اس کتاب پرچہ میں چند ہلکی تھنکی نیکیاں اور ان کا ثواب لکھا گیا ہے،
نیز الیصالِ ثواب کا آسان طریقہ بیان کیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَحْمِدُهُ وَنَعْتَلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ۖ امَّا بَعْدُ :

تمہید

احادیثِ طیبہ میں چند اعمال ایسے ملے جو بظاہر بہت مختصر اور
ہلکے معلوم ہوئے اور ان پر اجر و ثواب بہت زیادہ بیان ہوا۔
جو اس کریم ذات کا مخصوص فضل و کرم ہے اور اس کی بے انتہا بخشش
ہے جو ہم فقیروں کے لئے اس کی رحمت بیکار ہے۔ یہاں ان اعمال

کو جمع کیا گیا ہے تاکہ پہنچنے والے غلطیم حاصل کر سکے۔ لیکن یاد رہے کہ دین صرف ان اعمال میں مختصر نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ تمام حقوق و فرائض ادا کرے اور تمام گناہوں سے توبہ کرے اور پچھے کی بھرپور کوشش بھی کرے۔

آنے والے بعض اعمال پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے ان کے متعلق ذہن نشین رہے کہ ان میں معافی سے گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے۔ کیونکہ گناہ کبیرہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے لہذا اکسی کو بغایطہ اسی نہ ہو کہ خواہ و کسی قسم کے کتنے ہی گناہ کرتا رہے تو بہ کے بغایر ان آسان اعمال کے ذریعے معافی ہوتی رہے گی۔

نیز کوئی صاحب یہ دھوکہ بھی نہ کہا میں کہ جب ہم بڑے نیک کاموں سے محروم ہیں تو ان آسان اور مختصر اعمال کے کرنے سے کیا فائدہ ؟

جب ہم بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہیں تو ان اعمال کی کیا ضرورت ہے ؟ یہ دونوں خیال شیطانی دھوکہ ہیں۔ کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ارشاد ہے :

”نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر مت سمجھو۔“

اس لئے کیا بعید ہے کہ ہی نیکی قبول ہو جائے اور اسی کی برکت سے ہماری باقی زندگی بھی درست ہو جائے۔

لہذا اس جذبۃِ اعتدال سے اس کتاب پچھے کامطالعہ فرمائیں اور عمل

فرمائیں۔ (خلاصہ اذ آسان نیکیاں)

نیز اس رسالہ کے مذکورہ اعمالِ انعام دے کر ان کا ثواب اپنے
مرحومین کو پہنچانا بھی بہت آسان ہے۔

اس لئے روزانہ اس رسالہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر اس کا ایصالِ ثواب
بھی کر دیا کریں تو اچھا ہے۔ ایصالِ ثواب کا طریقہ اور اس کی تفصیل
آخری آمد ہی ہے۔

وَمَا تَوْفِيقٌ إِلَّا بِإِنْشَاءِ وَلَدَحْوَلَ
وَلَدُقْوَةٌ إِلَّا بِإِنْشَاءِ

شیطان سے حفاظت

شیطان انسان کا دشمن ہے جو ہر طرح انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے متر سے بچنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جو شخص بوقت صبح ایک مرتبہ

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط
پڑھ تو شام تک شیطان (کے شر) سے اُس کی حفاظت کی جائے گی۔“
(کنز العمال)

چار بیماریوں سے تحفظ

اج کل بے شمار بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس قدر دو اخانے، شفاخانے اور ہسپتال بن رہے ہیں، بیماریاں، ان سے زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ جن بیماریوں کا کبھی نام تک نہ سنا تھا اج وہ عام پائی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خطرناک بیماریوں سے تحفظ کا بہت آسان طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ملاحظہ کیجئے اور عمل فرمائیے ۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(اے قیصر!) جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو نماز فجر کے بعد تین مرتبہ ریہ کلمات) کہہ لیا کرو۔

” سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“

اللہ تعالیٰ تہمیں چار بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ جذام، جنون، اندھاپن اور فالج سے۔ (عمل الیوم واللیلة)

دوڑخ سے بخات

دنیا کی ساری تکالیف میں کہ جہنم کے کسی ادنیٰ عذاب کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ دوزخ کا عذاب بہت ہی ہولناک ہے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے آئین! ذیل میں اس سے بچنے کا ایک آسان طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ دل کی گمراہی سے صبح و شام اس پر عمل کرنا چاہئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

” جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ ہمَّ آجِزْنِیْ مِنْ
النَّارِ ه سات مرتبہ کھو۔ کیونکہ جب تم یہ کلمات کھو گے اور اسی رات تمہارا
انتقال ہو گیا تو تمہارے واسطے جہنم سے آزادی کا ایک پروانہ لکھ
دیا جائے گا۔ اسی طرح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر یہ کلمات سات مرتبہ
کھو۔ اگر اس روز تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے لئے دوزخ سے آزادی
کا ایک پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ (کنز العمال)

ہزارہ نیکیاں

بازاغفلتوں اور گناہوں کی جگہ ہے اور بازار جانا ایک ضرورت بھی ہے۔ اگر وہاں خریداری کے دوران الشد پاک کا ذکر ہوتا رہے تو خیریٰ خیر ہے۔

حدیث میں درج ذیل ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے:-

لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْعُلُوْكُ
 وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِّي وَيُعِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ
 يُبَدِّي وَالخَمِيرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات کہے تو الشد تعالیٰ اس کے لئے ہزارہ نیکیاں لکھتے ہیں اور ہزارہ (صغیرہ) گناہ معاف فرماتے ہیں اور ہزارہ ہزارہ درجے بڑھاتے ہیں۔ (ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ) اور اس کے لئے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔

(ترمذی)

ان کلمات کو زبانی یاد کر لیں اور بازار میں بار بار پڑھتے رہا کریں۔

شب قدر کے برابر ثواب

قرآن کیم کی روز سے شب قدر میں عبادت کرنے سے کا ثواب ایک
ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک ہزار مہینوں میں تیس
ہزار راتیں ہوتی ہیں اور سالوں کی تعداد ترا سی سال چار ماہ بنتی ہے
جو شخص حق تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے۔ اور چونکہ ان کی رحمت
کی کوئی انتہائی نہیں ہے اس لئے اگر وہ کسی اور عمل پر بھی شب قدر
کا ثواب دے دیں تو ان کے خزانہ رحمت میں کچھ بھی نہیں آتی جنماچھ
درج ذیل کلمات تین مرتبہ کہنے پر شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔
آپ بھی یاد کریں اور یہ ثواب حاصل کریں۔

(کنز العمال ص ۲۲۶ ج ۲)

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
السَّمَاوَاتِ السَّبِيعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ**

بے شمار گناہوں کی معافی

درج ذیل استغفار کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے کہ جو شخص رات کے سونے کے لئے ہاپنے بستر پر آئے اور تین مرتبہ
یہ کلمات کہے :-

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمَ وَالْوَبِ الْيَمِ -

اللہ تعالیٰ اُس کے (سارے صغیرہ) گناہ مخالف فرمادیں گے اگرچہ وہ سمندز کے جھاؤ کے برابر ہوں یا مقام عالج کی ریت کے ذرات کے مساوی ہوں یا درخت کے تپوں کے برابر ہوں یا دنیا کے دن و رات کے برابر ہوں۔ (ترمذی)

ایک لاکھ ۲۳ ہزار نیکیاں

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شخص سبّحَانَ اللَّهِ وَصَلَّى مُحَمَّدٌ (ایک بار) کئے تو اُس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (کنز العمال ج ۲۲۶ جلد ۲) (ف) ہر نماز کے بعد دس مرتبہ یا ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کریں اور کیا، ہی اچھا ہو کہ سوم مرتبہ پڑھ اور سوم مرتبہ شام پڑھ لیا کریں اور اس کے ساتھ سبّحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ بھی ملا لیا کریں۔

۰۰ فرشتہ ثواب لکھیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شخص جَزَى اللَّهُ مُحَمَّدًا أَعْنَامًا هُوَ أَهْلُهُ (ایک مرتبہ) کئے تو

الشہر پاک اس کلمہ پر اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ) ستر فرشتے
ستردن تک اس کا ثواب لکھیں تو نہ لکھ سکیں ۔
(رکن ز العمال جلد ۲۲ ص ۲۲۳)

جنت میں درخت

سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور
اللَّهُ أَكْبَرُ (ایسے پیارے کلمات ہیں کہ) ان میں سے ہر کلمہ
کہنے کے عرصہ) جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے ۔
(ماخذہ رکن ز العمال ص ۱۶۷ جلد ۱)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے پر بخشش

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے
سامنے نور کا ایک ستون ہے ۔ جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے تو
یہ ستون ہلنے لگتا ہے ۔ حق تعالیٰ لشائہ فرماتے ہیں ٹھہر جا، وہ ستون عرض
کرتا ہے میں کیسے ٹھہر جاؤں ؟ حالانکہ ابھی اس کلمہ پڑھنے والے کی مخفف
نہیں ہوئی ۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کی مغفرت

کو دی۔ چنانچہ وہ مُھم جاتا ہے۔
 فتے:- چلتے پھر اگر اس کلمہ کو پڑھنے کا معمول بنالیں تو یہ اسان
 بھی ہے اور ثواب عظیم کا ذریعہ ہے اور مغفرت کا سامان بھی ہے۔

جمعہ کے درود وسلام کا ثواب

درود وسلام بڑی محبوب اور بڑی مقبول عبادت ہے اور آخرت
 میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہونے کا اہم ذریعہ ہے۔
 احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں ان میں جمعہ کے دن
 کے درود وسلام کی کثرت کرنے کی خاص تاکید و ترغیب ہے اور سب سے
 افضل درود ابراہیمی ہے اور سب سے حچھوٹا درود صلی اللہ علیہ
 اشیٰ اذْتَقِیْ یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے بھی درود شریف کی
 فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔
 اس سلسلہ میں چند احادیث ملاحظہ ہوں :-

شفاعت کرنا اور گواہ بننا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 « جمعہ کے دن اور شبِ جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ
 جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اُس کے لئے گواہ اور سفارشی
 ہوں گا ۔ ” (کنز ص ۴۸۹ ج ۱)

نورِ عظیم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے دن مجھ پر سو مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ (ایک ایسا) نور ہو گا کہ اگر وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لئے کافی ہو۔ (کنز الصن، جلد ۵۰، ص ۲)

دو سو سال کے گناہ معاف

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو شخص جماعت کے دن دو سو مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے اُس کے دو سو سال کے گناہ (صغریہ) معاف کر دیئے جائیں گے۔ (کنز الصن، جلد ۵۰، ص ۲)

سو حاجتیں پوری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو شخص جماعت کے دن اور شبِ جمعۃ میں مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اُس کی سو حاجتیں پوری فرماتے ہیں، ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس درود کو مجھ تک پہنچانے کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اس کو میری قبر میں (اس طرح) پلیش کرتا ہے جس طرح تمہاری خدمت میں تحفے پلیش کئے جاتے ہیں اور بلا شہبہ میری وفات کے بعد میرا علم ایسا ہی ہے جیسے میری

زندگی میں ہے۔ (کنز ص، ۵۰ جلد ۲)

ہامنٹ میں۔ اقرآن کریم کا ثواب

قرآن کریم بڑی مبارک کتاب ہے۔ اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کی تلاوت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے اور اس کو سمجھنا اور اسکے احکام پر عمل کرنا اس کا اصل مقصد ہے اس لئے عمل اور تلاوت دونوں باتوں کا اہتمام کرنا چاہیئے اور عمل کے ساتھ روزانہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیئے۔ ایک سال میں کم از کم ایک قرآن کریم ختم کرنا اس کا حق ہے۔

اور نیز احادیث طیبہ میں قرآن کریم کی بعض چھوٹی سورتوں کے بڑے فضائل آئے ہیں اس لئے اگر مسلمان روزانہ یہ سورتیں بھی پڑھ دیں کریں تو مختصر وقت میں مختصر تلاوت ہو جایا کمرے اور حق تعالیٰ کے فضل سے ثواب عظیم بھی ملتا رہے۔

سورة فاتحہ

حدیث شریف میں سورۃ فاتحہ کو دو تھائی قرآن کریم کے برابر فرمایا گیا ہے۔ (کنز العمال ص ۵۵۶)

اس لحاظ سے اس (سورۃ فاتحہ) کو تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب دو قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكُ
 يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرًا مُلْغَضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

آیتہ الکرسی

حدیث پاک میں اس کو جو تھائی قرآن کریم کے برابر فرمایا گیا ہے۔

(کنز العمال ص ۵۶۲ ج ۱)

اس لحاظ سے چار مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم پڑھنے
کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُودُ لَمَّا تَأْخُذُهُ سَلَّهُ وَلَدَ
 نَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلَّ ذَلِيلٌ
 يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

خَلْفَهُمْ وَلَدْ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَدْ يُؤْدِهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْغَظِيْعِيْرِ

سورة القدر

حدیث پاک میں اس کو چوتھائی قرآن کریم کے برابر فرمایا ہے۔ (کنز)
اس لحاظ سے چار مرتبہ اس سورہ کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم پڑھنے
کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ
عَلَىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

سورة الزلزال

حدیث شریعت میں اس کو آدھے قرآن کریم کے برابر فرمایا ہے (ترمذی)

اس طرح دو مرتبہ اس کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم پڑھنے کے
برابر ہے :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا ذُلِّلَتِ الْأَرْضُ ذُلِّلَ الْمَهَاجَرَاتِ
الثَّقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا هَيْوَانٌ يَوْمَئِذٍ تَحْدِيثٌ
أَخْبَارَهَا هِيَ بَأْنَ رَبِّكَ أَوْ لَهَا هَيْوَانٌ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ
النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ -

سورة العادیات

اذ روئے حدیث یہ سورۃ آدمی قرآن کریم کے برابر ہے۔

(ابو عبید۔ تفسیر مواہب الرحمن ص ۲۶۴ ج ۷)

اس طرح دو مرتبہ اسی سورت کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم
کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَدِيْتِ صَبَّحًا ۝ فَالْمُوْرِيْتِ قَدْحًا ۝ فَالْمُغْيَرَتِ
 صَبَّحًا ۝ فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا ۝ فَوَسْطَنَ بِهِ جَمْعًا
 إِنَّ أَلِدَنَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٍ ۝ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۝
 وَإِنَّهُ لِحَبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝ أَفَلَا يَعْلَمُ أَذْبَعِهِ
 مَا فِي الْقُبُوْرِ ۝ وَحُصْلَ مَا فِي الْمُصْدُورِ ۝ إِنَّ رَبَّهُمْ
 بِهِمْ يُؤْمِنُ لَخَيْرٍ ۝

سورة التكاثر

یہ سورہ ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب انہوئے حدیث ایک ہزار آیت
 پڑھنے کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمُكَلُّهُ التَّكَاثُرُهُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَهُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝
 لَمَّا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝ لَتَرَوْنَ
 الْجَحِيْمَهُ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝ لَمَّا لَتَسْلَمَنَ يَوْمِيْدِ
 عَنِ التَّعْيِيرِ ۝

سورة الكافرون

حدیث شریف میں اس سورہ کو چوتھائی قرآن کریم کے برابر قرار دیا ہے (ترمذی) اس طرح چار مرتبہ اس کے پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰ آيُهَا الْكٰفِرُوْنَ ه لَاۤ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ه
وَلَاۤ أَنْتُمْ أَعْبُدُوْنَ مَاۤ أَعْبُدُ ه وَلَاۤ أَنَا عَابِرٌ
مَاۤ أَعْبُدُ تُمُّهُ ه وَلَاۤ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَاۤ
أَعْبُدُ ه لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ه

سورة النصر

حدیث شریف میں اس کو بھی چوتھائی قرآن کریم کے برابر فرمایا ہے۔ (ترمذی)
اس طرح چار مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کریم کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ طَائِهَ كَانَ تَوَآبًا ۝

سورہ اخلاص کے فضائل

احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ذیل میں ان
کا مختصر انتخاب پیش کیا جاتا ہے۔

ایک قرآن کریم کے برابر ثواب

سورہ اخلاص کو احادیث طیبہ میں تھائی قرآن کریم کے برابر
فرمایا ہے اور بعض احادیث میں تین ہار پڑھنے کو پورے ایک
قرآن کریم کے برابر قرار دیا ہے۔ (بخاری و کنز العمال ص ۵۸۵ ج ۱)
اس طرح چھ مرتبہ اس کو پڑھنے سے دو قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔

جنت میں ایک محل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دس (۱۰) مرتبہ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے جنت میں ایک گھر بنادیتے ہیں۔ (کنز من ۵۸۵ ج ۱)

چار قرآن کریم کا ثواب

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد بارہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھا (تو یہ ثواب میں ایسا ہے) جیسے اُس نے چار مرتبہ قرآن کریم پڑھا اور اس دن روتے نہیں پر رہنے والوں میں وہ سب سے افضل شخص ہو گا۔ بشرطیکہ گناہوں سے بچے ۔ ” (کنز ج ۱ - ص ۵۵۹)

پچاس سال کے گناہ معاف

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:

” جو شخص پچاس مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کے پچاس سال کے گناہ (صغریہ) معاف فرمادیں گے ۔ ” (کنز العمال ص ۵۸۵ - ج ۱)

دوزخ سے نجات کی تحریر

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں یا نماز کے علاوہ دوسرا مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے دوزخ سے ایک براءت تحریر کر دیں گے۔
 (رکنزالعمال حوالہ مذکورہ)

دو سو سال کے گناہوں کی معافی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 جو شخص دوسرا مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کے گناہ (صغیرہ) معاف کر دیں گے۔
 (رکنزالعمال ص ۵۸۶ ج ۱)

ہزاروں ملائکہ کی صفائی

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا گیا! معاویہ بن معاویہ المزنی کا انتقال ہو گیا۔ کیا آپ اس کا نماز جنازہ پڑھنا پسند کریں گے؟ (آپ نے آمادگی ظاہر فرمائی) چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پنڈ نما راجس سے (درمیان میں) نہ کوئی

درخت باتی رہا اور نہ کوئی پردازہ حائل رہا (اور میان کی ہر چیز) پامال ہو کر رہ گئی اور ان کا جنازہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے اُس کو دیکھا اور اُس پر نمازِ جنازہ پڑھی اور فرشتوں کی دو صفوں نے بھی اُن پر نمازِ جنازہ ادا کی۔ ہر صفت میں ستر ہزار فرشتے تھے۔ میں نے کہا۔ اے جبریل! اس عمل کی بدولت میجانب اللہ ان کو یہ مرتبہ ملا؟

جبریل علیہ السلام نے جواب دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سے محبت رکھنے اور اس سورۃ کو آتے جاتے، کھڑے، بیٹھے ہر حال میں پڑھنے کی وجہ سے (ان کو یہ مرتبہ ملا ہے) -

(کنز العمال ص ۶۰۱ جلد ۱)

(ف) آپ مجھی سورۂ اخلاص کا حسب استطاعت معمول بنانے پر مذکورہ بالا فضائل اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سورۂ اخلاص یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ لَوْلَوْ - - - لَوْلَوْ - - - لَوْلَوْ - - -
اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ

آسان ایصالِ ثواب

ایصالِ ثواب برتق ہے اور یہ زندہ اور مردہ دونوں کو ہو سکتا

ہے (شامیہ) اس لئے اپنی اولاد اور ماں باپ کو ان کی زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے اور ایصالِ ثواب کے لئے کوئی خاص دن، تاریخ، مہینہ اور کوئی خاص نیک عمل شرعاً مقرر نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم پڑھ کر یا صدقہ کر کے نفل نماز پڑھ کر یا جس وقت بھونیک کام ہو جائے اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ اسی طرح ذکر کر کے تسبیحات پڑھ کر، حج کر کے یا عمرہ کر کے یا کوئی دینی کتاب خود لکھ کر یا چھپو اکر مسلمانوں میں تقسیم کر کے یا وعظ و نصیحت کر کے اس کا ثواب پہنچانا بھی درست ہے۔ لہذا اپنی جانب سے کسی خاص دن تاریخ کو یا کسی خاص طریقہ کو یا کسی خاص عمل کو ایصالِ ثواب کے لئے زیادہ باعثِ فضیلت سمجھنا یا سُنّت سمجھنا یا الوگوں کی لعنت و ملامت سے بچنے کی غرض سے کرنا درست نہیں۔

ایسی باتوں سے بچنا چاہیئے اور ایصالِ ثواب میں شریعت کی دی ہوئی آسانی اور آزادی کو برقرار رکھنا چاہیئے اور جہاں تک ہو سکے ایصالِ ثواب نہایت اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیئے۔ نام و نمود سے اور رواجی طریقوں سے بچنا چاہیئے۔

درس قرآن کریم کا ثواب

اوپر جو مختصر اعمال اور سورتوں کے فحائل لکھے گئے ہیں، اگر وزان ان سب کو پڑھ کر ان کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دیا کریں تو مختصر

وقت میں کم از کم دس قرآن کریم اور ایک ہزار آیات کا ثواب اور دیگر اعمال کا بے حد اجر و ثواب ملے گا اور جس کو بھی یہ ثواب بخشنا جائے گا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو گا اور ایصالِ ثواب کرنے والے کے ثواب میں بھی کچھ بھی نہ ہوگی بلکہ دوسروں کو ثواب پہنچانے کا اس کو مزید ثواب ملے گا۔ (در مختار مع الشامیہ) اس لئے روزانہ اس رسالہ کو پڑھنے کا معمول بنالیں۔

ایصال ثواب کا طریقہ

ایصالِ ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنے والدین اور اہل و عیال کو
ثواب پہنچانا ہو تو یوں کہیں :
”وَ اَمَّا اللَّهُ ! جُو كچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والدین
اور میرے اہل و عیال کو پہنچا دیجئے ۔“ آمین !
اگر سب کو ثواب پہنچانا ہو تو اس طرح کہیں :
”وَ اَمَّا اللَّهُ ! جُو كچھ میں نے پڑھا ہے اُس کا ثواب تمام
مسلمان مردوں اور عورتوں کو پہنچا دیجئے خواہ ان کا انتقال
ہو مچکا ہو یا فی الحال زندہ ہوں یا آئندہ قیامت تک
پیدا ہوں گے انسان جنات سب کو پہنچا دیجئے ۔“
آمین !

جب قبرستان جائیں تو جس کی قبر پر جائیں اس کو کچھ سڑھ کر ثواب

۳۶

پہنچادیں اور اُس کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور نیز بارہ مرتبہ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھ کر اس قبرستان میں جتنے مسلمان مردو عورت
 مدفون ہیں سب کو ثواب پہنچادیں مثلاً یہ کہہ دیں : اے اللہ بارہ مرتبہ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھنے کا ثواب اس قبرستان کے سالے مسلمانوں کو پہنچا
 دیجئے اور ان سب کی مغفرت فرمادیجئے اور ان پر رحم فرمائیے۔ آمین !
مسلم فرائض اور واجبات کا ثواب پہنچانا منع ہے البتہ نقل کامول
 نقل نمازوں، تلاوت، تسبیحات اور دروسِ غیر واجب
 اعمال کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ (شامیہ)

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ وَ
 أَلِهٖ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

بندہ عبد الرؤوف سکھروی

۱۵/۳/۲۰۱۳ھ

بروز اتوار